



## جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹنے کا ارادہ کرے تو اپنا بستر اپنی ازار کے اندرونی کنارے سے جھاڑ لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے (اس کی بے خبری میں) کیا چیز اس پر آگئی ہے

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹنے کا ارادہ کرے تو پہلے اپنا بستر اپنی ازار کے اندرونی کنارے سے جھاڑ لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے (اس کی بے خبری میں) کیا چیز اس پر آگئی ہے۔“ پھر یہ دعا پڑھے: ”يَا سَمِيكَ رَبِّي وَصَعْتُ جَنِيَّ وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنَّ أُمْسَكَتْ تَفْسِي قَارَحَمَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْقَطْهَا بِمَا تَحْقَطُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ“ اے میرے پالنے والے! تیرا نام ہے میں نے اپنا پہلو رکھا ہے اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا اگر تو نے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم کرنا اور اگر چھوڑ دیا (زندگی باقی رکھی) تو اس کی اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تو صالحین کی حفاظت کرتا ہے

[صحیح] [متفق علیہ]

اس حدیث میں سوتے وقت کے اذکار کا بیان ہے اور وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی روح کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے جب کہ اس کے بس میں اس سلسلے میں کوئی طاقت و قوت نہیں رہتی۔ پس وہ اسے اس کے خالق کے سپرد کر دیتا ہے کہ وہی اس کی حفاظت کرے چنانچہ وہ پورے طور پر اسے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے علماء کہتے ہیں کہ سونے اور جاگنے کے اوقات میں ذکر اور دعا کرنے کی حکمت ہے کہ انسان کے اعمال کا خاتمہ بھی اطاعت کے ساتھ ہو اور ان کا آغاز بھی اطاعت ہی کے ساتھ ہو۔ اس حدیث شریف میں نبی ﷺ اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں جس کا کرنا اور نہ کرنا سوتے وقت بندہ کے لیے مسنون ہے نبی ﷺ نے عملی پہلو کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ ”تم میں سے جب کوئی شخص سونے کے ارادے سے اپنے بستر پر جائے تو اسے جھاڑ لے“ آپ ﷺ نے ایسا اس لیے فرمایا کیوں کہ عرب لوگ بستر کو اسی حالت میں بچھا لےوا چھوڑ دیا کرتے تھے چنانچہ احتمال ہے کہ آدمی کے بستر کو چھوڑ جانے کے بعد اس میں موزی حشرات الارض گھس جائیں یا پھر وہ گرد و غبار وغیرہ سے آلود ہو جائے اس لیے نبی ﷺ نے سونے سے قبل بستر کو جھاڑ لینے کا حکم دیا۔ پھر آپ ﷺ نے اس شے کی وضاحت فرمائی جس کے ساتھ جھاڑا اور صاف کیا جائے آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ اپنی ازار کے اندرونی حصے سے اپنے بستر کو جھاڑ لے“ ازار سے مراد وہ کپڑا ہے جو بدن کے نچلے حصے میں پہنا جاتا ہے مراد یہ کہ کپڑے کی اندرونی کنارے کی جانب سے وہ صاف کر لے کیونکہ اس سے جھاڑنا آسان ہوتا ہے اور اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ ازار کے بیرونی حصے پر گندگی وغیرہ نہ لگے اور یہ کہ ایسا کرنے میں زیادہ ستر پوشی ہے عام طور پر عرب کے پاس ان کے اپنے جسم پر موجود ازار اور چادر کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں ہوا کرتا تھا، بہر حال اہم یہ ہے کہ بستر کو جھاڑ لیا جائے پھر چائے یا اپنے جسم پر موجود کپڑے کے ذریعے ہو یہ پھر کسی اور کپڑے یا کسی اور چیز کے ذریعے جس کو بستر جھاڑنے میں استعمال کیا جاتا ہے پھر آپ ﷺ نے بستر کو جھاڑنے اور اس کی صفائی کی علت بیان کر رہے ہیں کہ ”اسے نہیں معلوم کہ اس کے بعد اس بستر پر کون آیا رہا“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت جسمانی حفاظت پر بھی زور دیتی ہے کیونکہ جسمانی سلامتی ہی سے دینی امور کی تکمیل ہوتی ہے۔ ہاں تک تو عملی سنت اور اس کی علت کا بیان تھا۔ ثانیاً: قولی سنت: پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ پھر وہ سونے والا کہے ”يَا سَمِيكَ رَبِّي“ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو بلند و برتر اور عظیم ہے، میں یہ ناتواں جسم بستر پر رکھتا ہوں اس میں اس بات کے استحباب کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو ہر وقت ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہئے۔ پھر کہے: ”وضعت جنبي وبك أرفعه“ یعنی میں تیرے ذکر کے ساتھ اس جسم کو رکھتا اور اٹھاتا

ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ (یوں کہ) ”إِنْ أُمْسَكْتَ تَفْسِي فَارْحَمَهَا“ اس سے یہاں کنایہ موت مراد ہے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ”وَإِنْ أُرْسَلْتَهَا“ سے کنایہ زندگی مراد ہے آپ نے فرمایا ”فَاخْفَظْهَا يَمَا تَخْفَظُ بِهِ عَبْدَكَ الصَّالِحِينَ“ یعنی میری جان و روح کی ویسے ہی حفاظت کرنا جیسے تو اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اس سے تمام گناہوں، ہلاکت میں ڈالنے والی اور تمام بری اشیاء سے عمومی طور پر حفاظت مراد ہے جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا تم اللہ (کہ اوامر و نواہی) کی حفاظت کرتے رہو و تمہاری حفاظت کرے گا یہ عمومی حفاظت ہے اسی لیے اسے نیکو کار لوگوں کے ساتھ خاص کیا اللہ تعالیٰ کی حفاظت نیکی ہی کے ساتھ حاصل ہوا کرتی ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی اپنے اولیاء کو دی جائے والی خصوصی حفاظت میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا جو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں تفریط سے کام لیتا ہے اور انہیں ضائع کرتا ہے تاہم عمومی حفاظت اسے بھی حاصل رہتی ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/6034>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

